

## AMO 2021 ورچونل کانفرنس میں سٹی آف برامپٹن: بحالی، صحت اور مستقبل کی خوشحالی کے لیے وکالت کرتے ہوئے

برامپٹن، آن (16 اگست 2021) – 18 اگست تک، سٹی آف برامپٹن کی جانب سے ایک وفد 2021 ایسوسی ایشن آف میونسپلٹیٹیز (AMO) ورچونل کانفرنس میں شرکت کرے گا۔ میئر پیٹرک براؤن کی سربراہی میں، کونسل کے اراکین اور سٹی کے افسران حکومتی وزراء، افسران اور پورے صوبے کے اہم فریقین کے ساتھ برامپٹن کے لیے اہم ترین مسائل پر بات چیت کریں گے۔

جبکہ ہم کووڈ-19 کی عالمی وباء سے گزرنا جاری ہیں، ہماری ترجیحات بحالی اور ہماری کمیونٹی کی مجموعی صحت و بہبود پر روشنی ڈالیں گی۔ ان میں شامل ہیں:

- **فعال نقل و حمل – فعال نقل و حمل کے پراجیکٹس کو بڑھانا اور فروغ دینا، بشمول سائیکلنگ کا انفراسٹرکچر اور فنڈنگ**
- **ماحولیاتی تبدیلی اور عوامی صحت – صحت مند ماحول، معیشت اور کمیونٹی کی مدد کے لیے سرمایہ کاریاں کرنے اور پالیسی میں تبدیلیاں لانے کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ شراکت داری**
- **ثانوی یونٹس – قابل برداشت رہائش کے انتخابات کی کمی کو حل کرنا اور بلڈنگ کوڈ میں اصلاحات کے لیے وکالت کرنا**
- **معاشی ترقی اور بحالی – معاشی بحالی کے ذریعے سرمایہ کاری اور معاونت فراہم کرنا اور برامپٹن کے انوویشن ڈسٹرکٹ کو بڑھانا اور فروغ دینا**
- **آٹو انشورنس – اونٹاریو کے ٹوٹے ہوئے آٹو انشورنس سسٹم کی مرمت کے لیے وکالت کرنا، قابل برداشت ہونے میں بہتری لانا اور بل 42 کو منظور کر کے قانونی عمل کو تیز کرنا**
- **کمیونٹی کی سلامتی کے لیے وکالت – ذہنی صحت کے لیے اضافہ شدہ معاونت، کمیونٹی کی سلامتی کے لیے نئے اور موجودہ وسائل کی شناخت کرنا اور پیل ہاؤسنگ ماسٹر پلان کے لیے فنڈنگ بڑھانا**
- **بعد از ثانوی تعلیم کے مواقع – برامپٹن یونیورسٹی ایکٹ کو پاس کر کے برامپٹن یو کے وجود کے لیے قانون سازی کرنا اور برامپٹن میں ریٹرنس میڈیکل اسکول کے لیے منصوبہ بندی کے عمل کو بڑھانا**
- **رہائش – رہائشیوں اور بین الاقوامی طلباء کے لیے محفوظ اور قابل برداشت رہائش کے لیے حل اور پروگرام تیار کرنا اور سٹی کے انفراسٹرکچر پر متعلقہ اثرات کی نظرثانی**
- **نگہداشت صحت – کئی طبی خدمات اور پیل میموریل سنٹر فار انٹیگریٹڈ ہیلتھ اینڈ ویلنسی کے مرحلہ II کی تیاری کے لیے فوری فنڈنگ اور ایک جامع کینسر کیئر سنٹر کے لیے اوسلر سٹیج 1 کی تجویز کی منظوری**
- **ٹرانزٹ – عالمی وباء سے بحال ہونے اور مسافروں کی تعداد کو قبل از کووڈ-19 درجات پر بحفاظت بڑھانے کے لیے ٹرانزٹ کے عمل درآمد کے لیے فنڈنگ**
- **اعلیٰ درجے کی ٹرانزٹ – جاری اقدامات کی مسلسل بڑھوتری؛ LRT کی توسیع، کوئین اسٹریٹ ہائیوے BRT 7 اسٹڈی اور پورے دن کی دو طرفہ گو ٹرین سروس**

سٹی کی کلیدی ترجیحات کے متعلق مزید جاننے کے لیے، [یہاں](#) کلک کریں

### اقتباسات

"پچھلے سال نے ہمیں کمیونٹی اور ان کی طاقتوں اور ان کی ضروریات کے متعلق بہت سکھایا ہے۔ جبکہ ہم کووڈ-19 کی عالمی وباء کے دوران اپنی صحت و سلامتی پر توجہ مرکوز کرنا جاری ہیں، ہم ساتھ ہی ایک مزید مؤثر اور خوشحال مستقبل

کے لیے بھی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ایک برامپٹن، جو کامیابی، سرمایہ کاری اور بڑھوتری کے لیے تیار ہو۔ میں اس سال کے دوران صوبے کی جانب سے معاونت اور ہمارے شہر کو بہتر بنانے کے ان کے عزم کے لیے شکرگزار ہوں۔ میں اس رفتار کو مزید بڑھانے، اپنے پراجیکٹس کو تعبیر ہوتا دیکھنے اور برامپٹن کے لیے اپنے نظریے کو حقیقت بنتا دیکھنے کے لیے شراکت داری جاری رکھنے کے لیے پر امید ہوں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن کی ٹیم اس عالمی وباء کے دوران طاقت اور ثابت قدمی ظاہر کرنا جاری ہے۔ انہوں نے مسلسل معاونت فراہم کی ہے، جس پر کمیونٹی انحصار کرتی ہے، جبکہ ساتھ ہی شہر کو مضبوط بنانے کے لیے پراجیکٹس اور اقدامات پر کام جاری رکھا ہے، جو ہمیں کامیابی اور متحرک معاشی بحالی کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ہمارے صوبائی شراکت داروں کے ساتھ اشتراک سے کام برامپٹن کے مستقبل کے لیے لازمی ہے۔ میں کانفرنس کے دوران اپنے ساتھیوں سے بات چیت کرنے اور اس شہر کے لیے اہم ترین چیزوں کی وکالت کرنے کے لیے پر امید ہوں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگل

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)